

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

کسی شخص کی بیوی اور اس کی کسی اور بیوی سے بیٹی کے مابین جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں - دیکھیں کتاب الام (155 / 7) -

امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ عورت اور اس کے والد کی (دوسری بیوی) بیوی کے مابین ، اور اس کے بیٹے کی بیوی اور اس کی چچا زاد کے مابین جمع کر لے ، اس لیے کہ اس کی تحریم میں کوئی نص نہیں -

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک امام شافعی اور ابوسلیمان رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے -

دیکھیں المحلی (532 / 9) -

اور ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ جو کسی شخص کی بیوی تھی اور اس کی کسی اور بیوی سے بیٹی کو جمع کر لیا جائے -

اکثر اہل علم کے ہاں بیوی اور اس کی ربیبہ کے مابین جمع میں کوئی حرج نہیں (یعنی بیوی کی ربیبہ) عبداللہ بن جعفر اور صفوان بن امیہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا ، اور حسن ، عکرمہ ، ابن ابن لیلی ، کے علاوہ سب فقہاء کرام کا یہی کہنا ہے صرف ان سے کراہت مروی ہے -

وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اگر ایک مذکر ہوتا تو اس پر دوسری حرام ہوجاتی ، تو اس طرح یہ عورت اور اس کی بھوپھی کے مشابہ ہوئی -

اور ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کافرمان ہے :

اور اس کے علاوہ باقی تمہارے لیے حلال ہیں النساء (24) -

اور اس لیے بھی کہ ان کے مابین کوئی بھی قرابت اور رشتہ داری نہیں ، تو اس طرح یہ دونوں اجنبیوں کے مشابہ ہوئیں ، اور اس لیے بھی کہ جمع اس لیے حرام کیا گیا ہے کہ اس سے دو قریبی متناسب کے مابین قطع رحمی کا خدشہ ہوتا ہے ، اور ان دونوں کے مابین تو کوئی قرابت داری ہے ہی نہیں ، تو اس سے انہوں نے جو ذکر کیا ہے سے فرق اور جدا ہوجاتا ہے -

دیکھیں المغنی لابن قدامہ المقدسی (98 / 7) -

تواس بنا پر آپ کی بیوی کے والد کی بیوی (جو آپ کی بیوی کی والدہ نہیں) آپ کی محرمات میں شامل نہیں ہوگی ،
بلکہ وہ آپ کے لیے اجنبیہ ہے آپ اس سے مصافحہ نہیں کرسکتے اور نہ ہی آپ کے لیے اس سے خلوت اور اس
کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے ۔

واللہ اعلم .